



4617CH01

مٹّی کا دیا

جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹّی کا دیا
ایک بڑھیا نے سر رہ لا کے روشن کر دیا
تاکہ رہ گیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں
راہ سے آساں گزر جائے ہر اک چھوٹا بڑا
یہ دیا بہتر ہے اُن جھاڑوں سے اور فانوس سے
روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی سدا
گر نکل کر اک ذرا محلوں سے باہر دیکھیے
ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا
سُرخ رُو آفاق میں وہ رہ نما مینار ہیں
روشنی سے جن کی ملاجوں کے بیڑے پار ہیں

الطاف حسین حالی

معنی یاد کیجیے

سورج ڈوبنے کے وقت، شام کے وقت	:	جھٹ پٹے کے وقت
راستے میں	:	سر رہ
راستہ چلنے والا، راہی	:	رہ گیر
مسافر، دوسری جگہ کارہنے والا	:	پردیسی
شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمع دان	:	جھاڑ
چراغ کی حفاظت کرنے والا شیشہ، چینی	:	فانوس
ہمیشہ	:	سدا
کامیاب	:	سُرخ رُو
اُفق کی جمع، دُنیا، کائنات	:	آفاق
وہ روشن مینار جو سمندروں میں جہازوں اور کشتیوں کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں۔	:	رہ نمائینار
کشتی چلانے والا	:	ملاح
جہازوں اور کشتیوں کا قافلہ	:	بیڑے
منزل پر پہنچنا، کامیاب ہونا	:	بیڑا پار ہونا

سوچیے اور بتائیے

1. بڑھیا نے مٹی کا دیا کس وقت روشن کیا؟
2. راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟

مٹی کا دیا

3. مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر کیوں ہے؟
4. محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
5. رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟
6. دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟

ان لفظوں کے متضاد لکھیے

آسان بہتر روشنی محل اندھیرا

مصرعے مکمل کیجیے

1. جھٹ پٹے کے وقت ————— سے ایک مٹی کا دیا
2. تاکہ رہ گیر اور ————— کہیں ٹھوکر نہ کھائیں
3. راہ سے ————— گزر جائے ہر اک چھوٹا بڑا
4. روشنی سے جن کی ————— کے بیڑے پار ہیں

املا درست کیجیے

بڑیا آسان فانوس پردیسی مہلوں بہتر صرخ

لکھیے

1. اس نظم کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے
2. آپ نے بھلائی کا کوئی کام ضرور کیا ہوگا، اسے اپنے الفاظ میں لکھیے

کالم الف اور کالم ب کے مصرعوں کو ملا کر صحیح شعر لکھیے

(ب)

تاکہ رہ گیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں
ایک بڑھیا نے سر رہ لا کے روشن کر دیا
یہ دیا بہتر ہے اُن جھاڑوں سے اور فانوس سے

(الف)

جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا
راہ سے آساں گزر جائے ہر اک چھوٹا بڑا
روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی سدا

غور کرنے کی بات

○ آپ نے پڑھا کہ مٹی کے معمولی دیسے سے راہ گیروں کو کتنا فائدہ ہوا۔ وہ ٹھوکر کھانے سے بچ گئے اور دیسے کی تھوڑی سی روشنی میں انھوں نے آسانی سے راستہ پار کر لیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگوں کی مدد کرنے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قیمتی چیزوں اور روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مدد کرنے کے جذبے اور دردمند دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔

